

## 27070-کیا ناخن کے نیچے بھی میل و ضوء میں خلل انداز ہوتی ہے؟

سوال

کیا ناخنوں کے نیچے پائی جانے والی میل کچیل و ضوء پر انداز ہوتی ہے؟

پسندیدہ جواب

والصلة والسلام علی رسول اللہ و بعد :

چالیس یوم گزرنے سے قبل ناخن تراشنے واجب ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ناخن تراشنے، اور زیر ناف بال موڑ نے اور بغلوں کے بال اکھیر نے اور موچھیں کاٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چالیس یوم مقرر کیا ہے، کہ یہ چالیس یوم سے قبل کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ثابت ہے۔

دیکھیں: صحیح مسلم حدیث نمبر (258).

اس لیے مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اس معاملہ مدنظر رکھتے ہوئے نہ تو اپنے ناخن لبے کریں، اور نہ ہی موچھیں اور نہ ہی زیر ناف بال بڑھنے دیں، اور نہ ہی بغلوں کے بال، ان کی حد صرف چالیس یوم ہے۔

ناخنوں کے نیچے جمع ہونے والی میل کچیل کی صورت میں وضوء صحیح ہے کیونکہ یہ قلیل ہے۔